

”مینی بچی - چترتی بگنس اُٹت هوم اُرقات پھلی خد اُتر ایمانی بنی کی محنت کرو ٲر دوسروں کو کھو. آتما سمجھ کر آتما کو گیان دو تو گیان تلوار ۾ جوهر آ جائینگا“

پرشن :- سنگم ینگ پر کن دو باتوں کی محنت کرنی سین سنیگی تخت کی مالک بن جائینگی؟

اُتر :- 1- دُک سُک، نندا اُستتی ۾ سمان اُستتی رھی، یھ محنت کرو. کوئی پی کُچ اُلتا سُلتا بولی، کروڈ کری تو تھر چُپ رھو، کی پی پی مُک کی تالی نہین بجائو. 2- آنکوں کو سول بنائو، کرم مل آء بلکل سماپت هو جائی، ہر آتما پائی پائی هئ، آتما سمجھ کر گیان دو اُتر ایمانی بنی کی محنت کرو تو پوشیہ تخت نشین بن جائینگی. سمپورٹ پوُتر بنی والی گدی نشین بنتی هئ.

اوم شانتی . روحانی باپ روحانی بچوں سین بات کرتی هئ. تھر آتماؤں کو یھ تیسرا نیتر ملا هئ جسکو گیان کا نیتر پی کھا جاتا هئ، اُن سین تھر دیکتی هو اپنی پائیون کو. تو یھ بُڈی سین سمجھتی هو نان ک جب ہر پائی پائی کو دیکینگی تو یی کرم اندریان چنچل تو نہین هونگی. اُسی کرتی کرتی آنکین جو کرم مل هئ وو سول هو جائینگی. باپ کھتی هئ وشو کا مالک بنی کی لیٹی محنت تو کرنی پرینگی نان. تو آپی یھ محنت کرو. محنت کرنی کی لیٹی بابا نئین نئین گھیم پائنٹس سُناتی هئ نان. تو آپی اپنی کو پائی پائی سمجھ کر گیان دینی کی عادت دالنی هئ. ٲر یھ جو گایا جاتا هئ ک ”وی آر آل بردرس“ یھ پرنکٹیکل هو جائینگا. آپی تھر سچی سچی بردرس هو کیونک باپ کو جانتی هو. باپ تھر بچوں کی سات سروس کر رھی هئ. همٹی بچی مددی باپ. تو باپ آکر کی یی همٹ دیتی هئ سروس کرنی کی. تو یھ سھج هوتا نان تو روز یھ پرنکٹس کرنی پرینگی، سُسٹ نہین هونا چاہیٹی. یھ نئین نئین پائنٹس بچوں کو ملتی هئ. بچی جانتی هئ ہر پائیون کو بابا پڑھاء رھی هئ. آتمائین پڑھتی هئ، یھ روحانی نالیج هئ. اُسی اُسپرچوئل نالیج کھا جاتا هئ. صرف اِس سمیم روحانی نالیج روحانی باپ سین ملتی هئ کیونک باپ آتی هین هئ سنگم ینگ پر جب ک سرشتی بدلتی هئ اُور روحانی نالیج ملینگی پی تب جب سرشتی بدلنی والی هونگی. کیونک باپ آئینگا تو روحانی نالیج دینگی ک اپنی کو آتما سمجھو. آتما ننگی (اُشریری) آئی تی. یهان ٲر شریر ڈارٹ کرتی هئ. آپی شروع سین تھر نین 84 جنم لیٹی هئ. تو نمبروار جو جئسی آئی هونگی وه وئسی هین گیان یوگ کی محنت کرینگی. ٲر دیکنی ۾ پی آتا هئ ک جئسی جس نین کلپ پھلی جو پرشارت کیئا، محنت کیئا وه آپی پی اُسی هین محنت کرتی رھتی هئ. اپنی لیٹی محنت کرنی هئ. دوسری کوئی کی لیٹی تو نہین کرنی هوتی هئ. تو اپنی کو هین آتما سمجھ کر کی اپنی سات محنت کرنی هئ. دوسرا کیا کرتا هئ، اُس ہمارا کیا جاتا هئ. چترتی بگنس اُٹت هوم معنی پھلی پھلی خد محنت کرنی هئ، پیچی دوسروں کو (پائیون کو) کھنا هئ. جب تھر اپنی کو آتما سمجھ کر کی آتما کو گیان دینگی تو تمھاری گیان تلوار ۾ جوهر رھینگا. محنت تو هئ نان. تو ضرور کُچ نہ کُچ سھن کرنا پرتا هئ. اِس سمیم دُک سُک، نندا

اُستتي، مانُ اَپمان يي سڀ ٿورا بهت سهن ڪرنا پرتا هئ. توجب يي ڪوئي اُلٽا سُلٽا بولتا هئ، توجب ڪهتي هئ چپ. توجب ڪوئي چپ ڪر ديتي هئ توجب پيچي ڪوئي غما ڪيا ڪرينگي! جب ڪوئي بات ڪرتي هئ اوڙ دوسرا پي بات ڪرتي هئ تومڪ ڪي تالي بجتي هئ. اَگر ايڪ نين مڪ ڪي تالي بجائي اوڙ دوسري نين شانت ڪيئا توجپ! بس يي باپ سڪلاتي هئ. ڪيي پي ديو ڪوئي ڪروڙ ۾ آتي هئ توجپ هو جائو، آپيهين اُسڪا ڪروڙ شانت هو جائينگا. دوسري تالي بجينگي نهين. اَگر تالي سين تالي بجي توڦر گڙڙڙ هو جاتي هئ. تواس ليئي باپ بولتي هئ ڪيي پي ان باتون ۾ تالي نهين بجائو. نه وڪار ڪي، نه ڪار ڪي، نه ڪروڙ ڪي.

بچون ڪو هرايڪ ڪا ڪلياڻ ڪرنا هين هئ. اتني جو سينٽرس بني هوئي هئ ڪس ليئي؟ ڪلپ پهل يي تواسي سينٽرس ڪلي هونگي. ديوون ڪا ديو باپ ديڪتي رهتي هئ ڪ بهت بچون ڪو يه شونق رهنا هئ ڪ بابا سينٽرس ڪلون. هر سينٽر ڪولتي هئ، هر خرچا اُٺائينگي. تودن پرت دن اُٺسي هوتي جائينگي. ڪيونڪ جتنا وناش ڪي دن نزديڪ هوتي جائينگي اتنا ڦر اس طرف پي سروس ڪا شونق ٻڌتا جائينگا. آبي باپ دادا دونو اڪني هئ توهرايڪ ڪو ديڪتي هئ ڪ ڪيا پرشارت ڪرتي هئ، ڪيا پڊ پائينگي؟ ڪسڪا پرشارت اُٿر، ڪسڪا مڏير، ڪسڪا ڪنشت هئ؟ وه توديڪ رهي هئ. ٿيچر پي اسڪول ۾ ديڪتي هئ ڪ اسٽوڊنٽ ڪس سبجيڪٽ ۾ اوپر نيچي هوتي هئ. تويهان پي اُٺسي هين هئ، ڪوئي بچا اچي طرح سين اُٺينشن ديتي هئ تو اپني ڪو اونچا سمجهتي هئ. ڪوئي سميه ڦر پوڻ جاتي هئ، ياد ۾ نهين رهتي هئ تو اپني ڪو ڪم سمجهتي هئ. يي اسڪول هئ نان. بچي ڪهتي هئ بابا هر ڪيي ڪيي بهت خوشي ۾ رهتي هئ، ڪيي ڪيي خوشي ڪم هو جاتي هئ. توبابا آبي سمجهاتي رهتي هئ ڪ اَگر خوشي ۾ رهنا چاهتي هو تومن مناڀو، اپني ڪو آتما سمجهو اوڙ باپ ڪو پي ياد ڪرو. سامني پرماتما ڪو ديو ڪو وو اڪال تخت پر ٻڌنا هئا هئ. اُٺسي پائيون ڪي طرف پي ديو، اپني ڪو آتما سمجه ڪر ڪي ڦر پائي سين بات ڪرو ڪ پائي ڪو هر گيان ديتي هئ. بهن نهين، پائي پائي. آتمائون ڪو گيان ديتي هئ. اَگر يه عادت تمهاري پر جائينگي توتمهاري جو ڪرم مل آءِ هئ، جو تمڪو دوڪا ديتي هئ وه آهستي آهستي بند هو جائينگي. آتما آتما ۾ ڪيا ڪرينگي. جب ديه اَپمان آتا هئ تو ڳرتي هئ. بهت ڪهتي هئ بابا هماري ڪرم مل آءِ هئ. اچا ڪرم مل آءِ ڪو آبي سول آءِ بنائو. باپ نين آتما ڪو ديتا هين هئ تيسرا نيتر. تيسري نيتر سين ديڪينگي توڦر تمهاري ديه ڪو ديڪني ڪي عادت مٽ جائينگي. بابا بچون ڪو ڊئريڪشنس توديتي رهتي هئ، انڪو (برهما ڪو) پي اُٺسي هين ڪهتي هئ. يه بابا پي ديه ۾ آتما ڪو ديڪينگي. تواسڪو هين ڪها جاتا هئ روحاني ناليچ. ديو پڊ ڪتنا اونچ پاتي هو! زبردست پڊ هئ. پرشارت پي اُٺسا ڪرنا چاهيئي. بابا پي سمجهتي هئ ڪلپ پهل موافق سڀ ڪا پرشارت چلينگا. ڪوئي راجا راڻي بنينگا، ڪوئي پرچا ۾ چلي جائينگي. تويهان جب بٺ ڪر ڪي نيشتا (يوگ) پي ڪرواتو هو تواسي ڪو آتما سمجه ڪر ڪي دوسري ڪي پي ڀر ڪتي ۾ آتمائون ڪو ديڪتي رهينگي، توڦر اُنڪي سروس اچي هونگي. ديهي اَپماني هوڪر ٻڌنا هئ اوڙ سڀي آتمائون ڪو هين ديڪني ڪي پريڪٽس ڪرني هئ. اڙي، اونچ پڊ پانا هئ توجڪ تومحنت ڪرينگي نان. تواسي آتمائون ڪي ليئي يهي محنت هئ. يه روحاني ناليچ ايڪ هين دفعا ملتي هئ اوڙ ڪيي پي نهين ملينگي. نه ڪلهيگ ۾، نه ستيگ ۾

صرف سنگم ڀڳ ۾ سو پي برهمڻون ڪو. ڀي پڪا ياد ڪر لو. جب برهمڻ بنو تب ديوتا بنو. برهمڻ نه بنو تو ڦر ديوتا ڪٿي بنيندي؟ اس سنگم ڀڳ ۾ هيئن يهه محنت ڪرتي هئ اؤر ڪوئي سميه ۾ يهه نهين ڪهيندي ڪ اُپني ڪو آتما، دوسري ڪو پي آتما سمجهه، اُنڪو گيان دو. باپ جو سمجهاتي هئ اُن ۾ ويچار ساڱر منهن ڪرو. جڄ ڪرو ڪ ڪيا ڀي نيك هئ هماري فائدي ڪي بات هئ؟ همڪو عادت ۾ جائيندي ڪ باپ ڪي جو سڪيا هئ سو پائيون ڪو دينا هئ، فيميل ڪو پي دينا هئ تو ميل ڪو پي دينا هئ. دينا تو آتمائون ڪو هيئن هئ. آتما هيئن ميل، فيميل بني هئ، بهن پائي بني هئ.

باپ ڪهتي هئ مٿن تهر بچون ڪو گيان ديتا هون. مٿن بچون ڪي طرف آتمائون ڪو ديکتا هون اؤر آتمائين پي سمجهتي هئ ڪ همارا ۾ ماتما جو باپ هئ وهه گيان ديتي هئ تو اسڪو ڪهيندي يهه روحاني ايمان ڀي بني هئ. اسڪو هيئن ڪها جاتا اسپرچوئل گيان ڪي لين دين آتما ڪي آتما ڪي ساڻ. تو يهه باپ سڪيا ديتي هئ ڪ جب پي ڪوئي وڙڻر آتي هئ تو پي اُپني ڪو آتما سمجهه، آتما ڪو باپ ڪا پريچيه دينا هئ. آتما ۾ گيان هئ، شرير ۾ نهين هئ. تو اُنڪو پي آتما سمجهه ڪر ڪي هيئن گيان دينا هئ. اس سين اُنڪو پي اُچا لگيندا. جيئي ڪ يهه جوهر هئ تمهاري مُڪ ۾. اس گيان ڪي تلوار ۾ جوهر ڀر جائيندا ڪيونڪ ديهي ايمان ڀي هونان. تو يهه پي پرنڪتس ڪر ڪي ديکو. بابا ڪهتي هئ جڄ ڪرو يهه نيك هئ؟ اؤر بچون ڪي ليئي پي يهه ڪوئي نئين بات نهين هئ ڪيونڪ باپ سمجهاتي هيئن سهج ڪر ڪي هئ. چڪر لڳايا آب ناڻڪ پورا هئا هئ اُپي بابا ڪي ياد ۾ رهتي هئ. تموپرڌان سين ستوپرڌان بن، ستوپرڌان دنيا ڪا مالڪ بنتي هئ ڦر اُڻسي هيئن سيڙهي اُترتي هئ ديکو ڪتنا سهج بتاتي هئ. هر پانچ هزار ورش ڪي باد ميري ڪو آنا هئا هئ. ڊراما ڪي پلئن اَنوسار مٿن پنڌا امان هون. آڪر ڪي بچون ڪو بهت سهج ياد ڪي ياترا سڪلاتا هون. باپ ڪي ياد ۾ اُنت مٿي سو گتي هو جائيندي، يهه اس سميه ڪي ليئي هئ. يهه اُنت ڪال هئ اُپي اس سميه باپ بڻ ڪر ڪي ڀڪتي بتلاتي هئ ڪ مام ايڪم ياد ڪرو. تو سدگتي هو جائيندي. بچي پي سمجهتي ڪ پڙهائي سين يهه بنونگا، فلاڻا بنونگا. اسپر پي يهه هيئن هئ ڪ مٿن جاکر ڪي نئين دنيا ڪا ديوي ديوتا بنونگا. ڪوئي نئين بات نهين هئ باپ تو گهري گهري ڪهتي نٿنگ نيو. يهه تو سيڙهي اُترني چڙهني هئ. جن ڪي ڪهاڻي هئ نان. اُسڪو سيڙهي اُترني اؤر چڙهني ڪا ڪام ديتا گيا. يهه ناڻڪ هيئن هئ چڙهنا اؤر اُترنا. ياد ڪي ياترا سين هيئن بهت مضبوط هو جائيندي. اس ليئي پن پن پرڪار سين باپ بچون ڪو بڻ سڪلاتي هئ ڪ بچي اُپي ديهي ايمان ڀنو. اُپي سيڪو واپس جانا هئ. تهر آتما تموپرڌان بن گتي هو پوري 84 جنم ليڪر تموپرڌان بن گتي هو. يارتواسي هيئن ستو، رجو، تمو بنتي هئ. دوسري ڪوئي نئشنلتي ڪو نهين ڪهيندي ڪ پوري 84 جنم ليئي هئ. باپ نين آڪر ڪي بتايا هئ ناڻڪ ۾ هرايڪ ڪا پارت اپنا اپنا هئا هئ. آتما ڪتني چوڻي هئ. سائنسدانون ڪو يهه سمجهه ۾ هيئن نهين آئيندا ڪ اُتني چوڻي آتما ۾ يهه اَوناڻي پارت پرا هئا هئ. ڀي هئ سپ سين ونڊر فل بات. يهه چوڻي سي آتما اؤر پارت ڪتنا بجاتي هئ! وهه پي اَوناڻي! يهه ڊراما پي اَوناڻي هئ اؤر بنا بنيا هئ اُڻسي نهين ڪوئي ڪهيندي ڪ ڪب بنا؟ نهين. ڀي قدرت هئ. يهه گيان بڙا ونڊر فل هئ، ڪي ڪوئي يهه گيان بتاءِ هيئن نهين سڪتي هئ. اُڻسي ڪوئي ڪي طاقت نهين

هٽ جو يهه گيان بتاوي.

تو اُپي بچون ڪو باپ دن ڀرت دن سمجھاتي رھتي هٽ. اُپي پڙڪٽس ڪرو ڪ هر اُپني پاڻي آتما ڪو گيان ديتي هٽ. آپسمان بناني ڪي ليئي. باپ سين ورثا ليني ڪي ليئي ڪيونڪ سڀ آتمائون ڪا حق هٽ بابا آتي هٽ سڀي آتمائون ڪو اُپنا اُپنا شانتي وا سک ڪا ورثا ديني. هر جب راجڌاني ۾ هونگي تو باقي سڀ شانتي ڌار ۾ هونگي. پيچي جٽ جٽڪار هونگي. يهان سک هيٺ سک هونگا. اس ليئي باپ ڪهتي هٽ پاون بننا هٽ. جتنا جتنا تهر پيوئر بنتي هٽ اُتنا ڪشش هوتي هٽ. جب تهر بلڪل پيوئر هو جاتي هو تو گدي نشين هو جاتي هو. تو پڙڪٽس يهه ڪرو. اُتسي مت سمجھنا ڪ بس يي سنا اوڙ ڪان سين نڪالا. نهين، اس پڙڪٽس بگر تهر چل نهين سڪينگي. اُپني ڪو آتما سمجھو وهه پي آتما، پاڻي پاڻي ڪو بٽن ڪر سمجھائو. روحاني باپ روحاني بچون ڪو سمجھاتي هٽ. اسڪو ڪها جاتا هٽ روحاني اسپرچوئل ناليچ جو اسپرچوئل فادر ديني والا هٽ. جب چلڊرين پورا اسپرچوئل بن جاتي هٽ، ايڪدم پيوئر بن جاتي هٽ تو جاکر ستينگي تخت ڪي مالڪ بنتي هٽ. جو پيوئر نهين بنينگي وو مالها ۾ نهين آئينگي. مالها ڪا پي ڪوئي آرٿ تو هونگا نان. مالها ڪا راز دوسرا ڪوئي پي نهين جاتي هٽ. مالها ڪو ڪيون سمرتي هٽ؟ ڪيونڪ باپ ڪي بهت هيٺ مدد ڪي هٽ تو ڪيون نهين سمرتي جاتينگي. تهر سمرتي پي جاتي هو، تمھاري پوجا پي هوتي هٽ اوڙ تمھاري شير ڪو پي پوجا جاتا هٽ. اوڙ ميرتي تو صرف آتما ڪو پوجا جاتا هٽ. ديکو، تهر تو ڊبل پوجي جاتي هو. ميرتي سين پي جاسٽي. تهر جب ديوتا بنتي هو تو ديوتائون ڪي پي پوجا ڪرتي هٽ. اس ليئي پوجا ۾ پي تهر تيڪي، يادگار ۾ پي تهر تيڪي اوڙ بادشاهي ۾ پي تهر تيڪي، ديکو تمڪو ڪتنا اونچا بناتا هون. تو جٽسي پياري بچي هوتي هٽ بهت لو هوتا هٽ تو بچون ڪو ڪلهي پر، ماڻي پر پي رڪتي هٽ. بابا ايڪدم سر پر رک ديتي هٽ. اُچا!

ميني ميني سڪيلڌي بچون ڀرت مات- پتا باپ دادا ڪا ياد پيار اوڙ گڏمار ننگ. روحاني باپ ڪي روحاني بچون ڪو نمستي.

ڌارڻا ڪي ليئي مڪيه سار :-

- (1) ڳاڻن اوڙ پوجن يوگيه بنني ڪي ليئي اسپرچوئل بننا هٽ، آتما ڪو پيوئر بنانا هٽ. آتم اُپماني بنني ڪي محنت ڪرني هٽ.
- (2) من منايو ڪي اُپياس دواران اُپار خوشي ۾ رهنا هٽ. سِير ڪو آتما سمجھ ڪر آتما سين بات ڪرني هٽ، آنڪون ڪو سول بنانا هٽ.

وردان - سدا ڪال ڪي اُئينشن دواران وجٽ مالها ۾ پروني والي بهت سميه ڪي وجٽي پو
 بهت سميه ڪي وجٽي، وجٽ مالها ڪي مٽڪي بنتي هٽ. وجٽي بنني ڪي ليئي سدا باپ ڪو سامني رکو، جو باپ نين ڪيئا وهي همين ڪرنا هٽ. هر قدم پر جو باپ ڪا سنڪلپ وهي بچون ڪا سنڪلپ، جو باپ ڪي بول وهي بچون ڪي بول، تب وجٽي بنينگي. يهه اُئينشن سدا ڪال ڪا چاهيئي تب سدا ڪال ڪا راجيه پاڳيه پراپت هونگا ڪيونڪ جٽسا پرشارت وٽسا پراپت هٽ. سدا ڪا پرشارت هٽ تو سدا ڪا راجيه پاڳيه هٽ.

سلوگن - شيوا ۾ سدا جي حاضر ڪرنا، يهي پيار ڪا سچا ثبوت هٽ.